



The Absolute Reality

www.quran4u.com



وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ



اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندہری)

الزُّخْرَفُ

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حم (1)

حُم

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)

کتاب روشن کی قسم

إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3)

کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4)

اور یہ بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے پاس
(لکھی ہوئی اور) بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5)

بھلا اس لئے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے

وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ (6)

اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7)

اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8)

تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9)

تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے (خدا) نے پیدا کیا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10)

اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا

پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا

كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ (11)

اسی طرح تم (زمین سے) نکالے جاؤ گے

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12)

اور تمہارے لئے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ

تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا

وہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13)

اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14)

اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا

اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لئے اولاد مقرر کی

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15)

بیشک انسان صریح ناشکر ہے

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16)

کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو جن کر بیٹے دے دیئے

وَإِذْ أَبَشَرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلًّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17)

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوش خبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لئے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے

أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)

کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھڑے کے وقت بات نہ کر سکے (خدا کی) بیٹی ہو سکتی ہے؟

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں (خدا کی) بیٹیاں مقرر کیا،

أَشْهَدُوا وَآخَلَقَهُمْ

کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟

سَأَلْتَهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)

عنقریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ^ط

اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ^ص

ان کو اس کا کچھ علم نہیں

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20)

یہ تو صرف اٹکیں دوڑا رہے ہیں

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ذَهَبًا بِمُسْتَمْسِكُونَ (21)

یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22)

اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا

إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)

اور ہم قدم بقدم ان ہی کے پیچھے چلتے ہیں

قَالَ أَوْلَوْ جُنَّتُمْ بِأُهْدَىٰ هِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ^ص

پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا (دین) لاؤں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24)

کہنے لگے کہ جو (دین) تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ^ص

تو ہم نے ان سے انتقام لیا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (25)

سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26)

جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بے زار ہوں

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27)

ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28)

اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ (خدا کی طرف) رجوع رہیں

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (29)

بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور انکے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں

تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30)

اور جب ان کے پاس حق (یعنی قرآن) آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَدَرِيتَيْنِ عَظِيمِ (31)

اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں (یعنی کے اور طائف) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ج

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟

مَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج

ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِبًا^ظ

اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32)

اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ

اور اگر یہ خیال نہ ہو تاکہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں

لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33)

ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں (بھی) جن پر وہ چڑھتے ہیں

وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبًا وَسُرْمًا عَلَيْهِمَا يَتَّكِنُونَ (34)

اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں

وَزُحْرَفًا^ج

اور (خوب) نجل و آرائش (کردیتے)

وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج

اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)

اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لئے ہے

وَمَنْ يَعْتَشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36)

اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی تغافل کرے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔

وَإِنَّهُمْ لَيُصِدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ (37)

اور یہ (شیطان) ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے

کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا!

فَبَدَسَ الْقَرِينُ (38)

تو برا ساتھی ہے

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39)

اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم (سب) عذاب میں شریک ہو

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ

کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو؟

أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ

یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟

وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (40)

اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے (راہ پر لاسکتے ہو)؟

فَأِمَّا نَذُحِّبَنَّ بَأْسًا فَيَأْتِيهِمْ مُنْتَقِمُونَ (41)

اگر ہم تم کو (وفات دے کر) اٹھالیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے

أَوْ نُزَيِّنَنَّ الَّذِينَ وَعَدْنَا لَهُمْ

یا (تمہاری زندگی ہی میں) تمہیں وہ (عذاب) دکھادیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے

فَأِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (42)

ہم ان پر قابو رکھتے ہیں

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ

پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو

إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43)

بیشک تم سیدھے راستے پر ہو

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

اور یہ (قرآن) تمہارے لئے اور تمہاری قوم کے لئے نصیحت ہے

وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44)

اور (لوگو!) تم سے عنقریب پرسش ہوگی

وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45)

کیا ہم نے (خدا کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46)

تو انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47)

جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانوں سے ہنسی کرنے لگے

وَمَا نُزِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی

وَأَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48)

اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ

اور کہنے لگے کہ اے جادوگر!

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ اِنَّا لَكٰهْتَدُوْنَ (49)

اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بیشک ہم ہدایت یاب ہوں گے

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (50)

سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهٖ قَالَ يَا قَوْمِ

اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم

اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ

کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟

وَهٰذِهٖ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ

اور یہ نہریں جو میرے (مخلوں کے) نیچے بہ رہی ہیں (میری نہیں ہیں؟)

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (51)

کیا تم نہیں دیکھتے

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ (52)

بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں

فَلَوْلَا اَلْقِيْ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟

اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنٰٓيْنِ (53)

یا (یہ ہوتا کہ) فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ^ج

غرض اس نے اپنی قوم کی عقل ماردی اور انہوں نے اس کی بات مان لی

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54)

بیشک وہ نافرمان لوگ تھے

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55)

جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور سب کو ڈبو کر چھوڑا

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (56)

ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لئے عبرت بنا دیا

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57)

اور جب مریم کے بیٹے (عیسیٰ) کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے

وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ^ج

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ (عیسیٰ)

مَا ضَرَبُوا إِلَيْكَ إِلَّا جَدَلًا^ج

میرے سامنے انہوں نے عیسیٰ کی جو مثال بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59)

اور بنی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ (60)

اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

اور وہ قیامت کی نشانی ہیں

فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ

تو (کہہ دو کہ لوگو!) اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61)

یہی سیدھا راستہ ہے

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ

اور (کہیں) شیطان تم کو (اس سے) روک نہ دے

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62)

وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ

میں تمہارے پاس دانائی (کی کتاب) لے کر آیا ہوں

وَالَّذِينَ لَكُمْ بَعْضٌ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ^{صل}

نیز اس لئے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم کو سمجھا دوں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (63)

تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا^ج

کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64)

یہی سیدھا راستہ ہے

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ^{صل}

پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65)

سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66)

یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آمو جو ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو

الْأَخِلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67)

(جو آپس میں) دوست (ہیں) اس روز ایک دوسرے کے

دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار (کہ باہم دوست ہی رہیں گے)

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68)

میرے بندو! آج تمہیں نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہو گے

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69)

جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرماں بردار ہو گئے

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَبُونَ (70)

(ان سے کہا جائے گا) کہ تم اور تمہاری بیویاں

عزت (وا احترام) کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ^ط

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالیوں کا دور چلے گا

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ^ط

اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے (موجود ہوگا)

وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71)

اور (اے اہل جنت) تم اس میں ہمیشہ رہو گے

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)

اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیئے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73)

وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74)

(اور کفار) گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے

لَا يُفْتَرُونَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)

جو ان سے ہلکانہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی (اپنے آپ) پر ظلم کرتے تھے

وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ^ط

اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے

قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُثُونَ (77)

وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ (اسی حالت میں) رہو گے

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78)

ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79)

کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ^ج

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں

بَلَىٰ

ہاں ہاں (سب سنتے ہیں)

وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80)

اور ہمارے فرشتے ان کے پاس (ان کی) سب باتیں لکھ لیتے ہیں

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)

کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں (سب سے) پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوں

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82)

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک (اور) عرش کا مالک اس سے پاک ہے

فَذَرَّهُمْ يُخَوِّضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83)

تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَّ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ

اور وہی (ایک) آسمانوں میں معبود ہے اور (وہی) زمین میں معبود ہے

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84)

اور وہ دانا (اور) علم والا ہے

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین

کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

اور اسی کو قیامت کا علم ہے

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85)

اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ

اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)

ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں (وہ سفارش کر سکتے ہیں)

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^ط

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے

فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87)

تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں

وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88)

اور (بسا اوقات پیغمبر) کہا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے

فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ^ج

تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)

ان کو عنقریب (انجام) معلوم ہو جائے گا



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com